

غصہ-ایک سماجی نا سور

مولانا عبدالمتین

لیاری، کراچی

نقضان اور علاج

اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرم کر اس میں خیر و شر کے جذبات بھی پیدا فرمائے، تاکہ اس بات کی آزمائش کی جائے کہ انسان اپنے کون سے جذبے کو استعمال میں لاتا ہے اور ان پر کتنا قابو پاتا ہے۔ ان جذبات میں ایک ”غصہ“ بھی ہے۔ انسان میں دو عادتیں مرکزی کردار ادا کرتی ہیں: ①- پیٹ کی خواہشات، ②- غصے کے جذبات۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں:

”الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظْمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ“

(آل عمران: ۱۳۳)

”وَهُوَ الَّذِي جَوَنَّى اور خوشی میں خرچ کرتے ہیں اور وہ جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

مذکورہ آیت میں غصے کے گھونٹ کو پی کر معاف کرنے کا روایہ اختیار کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنا پسندیدہ بندہ قرار دے رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اللہ رب العزت کو ہر طرح کے گھونٹ میں غصے کا گھونٹ پی جانا بہت پسند ہے۔“ (احیاء العلوم)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رض مختصر نصیحت کی درخواست کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں: ”لَا تَعْصِبْ“، غصہ مت کر! غصے سے بچنے کی نصیحت کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ غصہ فقط ایک معاملہ نہیں؛ بلکہ غصہ اپنے اندر بہت سی برا بیوں کا مجموعہ ہے؛ اسی لیے علمائے صوفیہ اسے ”أُمُّ الْأَمْراض“، کانام بھی دیتے ہیں۔ سیدنا محمد بن جعفر فرماتے ہیں: ”غصہ ہر برائی کی چاپی ہے۔“ (احیاء العلوم) کیوں کہ ایک ایسا مرض ہے جو بہت سی برا بیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی کوکھ سے بھی بہت سی برا بیاں جنم لیتی ہیں، مثلاً: غصہ اس شخص کو زیادہ

کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے۔ (قرآن کریم)

آتا ہے جو تکبیر، خود پسندی کے مغالطے میں بنتا ہو، کوئی شخص کسی کو اپنے برابر یا اپنے سے بہتر سمجھ کر کبھی بھی اس پر غصہ نہیں کرتا۔

غصہ کی وجہ سے جنم لینے والی براہیاں

ویسے تو غصہ کی وجہ سے جنم لینے والی براہیاں بہت زیادہ ہیں جن میں گالم گلوچ، اڑائی جھگڑا اور مجبور ہونے کی صورت میں غیبت جیسی بیماریاں سر اٹھانے لگتی ہیں۔ ہمارے ہاں غصے کو ایک ہوشیاری اور مہارت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، مثلاً: یہ کہنا کہ مجھ سے ہربات برداشت نہیں ہوتی، میں تو صاف منہ پر سنادیتا ہوں، میں لحاظ وغیرہ نہیں کرتا، وغیرہ۔ یہ اور اس طرح کے جملہ استعمال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ تم کوئی بہت بڑی بات کر رہے ہیں؛ حالاں کہ یہ سب شیطان کے ہتھنڈے ہیں اور وہ ان جملوں کے ذریعے ہمیں غصے میں لا کر اپنے آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا اور ہمارے متعلقین کا نقصان ہو جاتا ہے۔

غصہ کا انسانی شخصیت پر اثر

غصہ صرف ایک عارضی حالت کا نام نہیں؛ بلکہ یہ بیماری شخصیت پر گہرے نقوش چھوڑتی ہے۔ امام غزالیؒ اس حوالے سے فرماتے ہیں: ”غصے کے وقت صورت بگز کر بھیا نک بن جاتی ہے، ایسی صورت بنتی ہے جیسے کاٹنے والا کتا اور انسان اپنے مقام سے گر کر خونخوار درندہ بن جاتا ہے؛ جب کہ جو لوگ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، ان کی صورت علماء، اولیاء اور صالحین سے ملتی ہے۔“ (احیاء العلوم)

غصے میں انسان عقل مندی سے کم عقلی کا سفر پل بھر میں طے کر لیتا ہے۔ اسے پتا بھی نہیں چلتا جب کہ اس کی عقل کا مام نہیں کر رہی ہوتی ہے، گویا غصے بے وقوفی کے سفر کو ایک رہنمای کی طرح طے کرانے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔

حسن بصریؓ فرماتے ہیں کہ: ”جب تو غصہ کرتا ہے تو اچھتا ہے، قریب ہے کہ تو کہیں چھلانگ نہ لگادے اور یہ چھلانگ تجھے سیدھا جہنم میں پہنچا دے۔“

حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنے میئے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”بیٹا! زیادہ غصہ بردبار آدمی کو ہلاکا کر دیتا ہے۔“ (احیاء العلوم)

معلوم ہوا کہ غصہ انسان کی شخصیت میں فقط ضد، جہالت، آنا پرستی کا ذریعہ بنتا ہے۔

غصے کے اسباب اور ان کا علاج

ذیل میں غصے کے علاج کے حوالے سے کچھ تجویز پیش کی جاتی ہیں:

وہ غصہ جو ہمارے مزاج کا مستقل حصہ بن جائے، اس کے پیچھے کچھ اسباب ضرور ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق غصہ ایک رُ عمل ہے جس کے اسباب میں ایک اہم سبب خوف کی کیفیت ہے اور خوف ہمیشہ نااہلی کی بنابر پیدا ہوتا ہے، مثلاً: ایک شخص اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ ہر وقت اس خوف میں بتلا رہتا ہے کہ گھر میں کیسے جاؤں؟ قرضے کیسے ادا کروں؟ گھر میں جاؤں گا تو بے سکون ہو جاؤں گا؛ کیوں کہ بیوی ذمہ دار یاں پورانہ ہونے کے سب سوال پر سوال کرے گی، بچوں کی فیس، علاج کا خرچ، گھر کا راشن تو وہ اپنی نااہلی کے سبب ایک خوف میں بتلا رہے گا اور جب بھی اس کی بیوی مذکورہ کوئی بھی سوال اٹھائے گی تو وہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اور اپنے گھیرے جانے کے خوف سے غصہ کرے گا، جھگڑے گا، وغیرہ۔ ایسی صورت میں غصہ کا علاج اپنی نااہلی کو امداد میں بدلتے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔

غضہ کا ایک سبب خود ساختہ تصورات ہیں، مثلاً خاندان، قبیلہ، رنگ، نسل کی وجہ سے ایک بلا وجہ کی بڑائی کا شکار ہو جانے سے غلط بھی میں خود کو افضل سمجھنا، کسی کی معمولی بدسلوکی پر اپنی بیچان جاتا کر غصہ کرنا۔ غصے کے حوالے سے سب سے پہلے یہ اصول سمجھنا ضروری ہے کہ غصہ انسانی خواہشات اور جذبات کا لازمی جز ہے؛ لہذا غصے کے علاج کے حوالے سے جو بھی علاج ذکر کیا جائے گا، وہ غصے کو قابو کرنے کے طریقے ہوں گے، نہ کہ تم کرنے کے۔ رسول اکرم ﷺ کا مبارک ارشاد ہے:

”لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرُعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نُفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبِ۔“

(صحیح البخاری، کتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، رقم الحديث: ٦١٤)

یعنی: ”پہلوان وہ نہیں ہے جو ایک ہتھیار میں مقابل کو گرا دے؛ بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو عین غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔“

دل اس بات کا شدت سے تقاضا کر رہا ہو کہ اس کو گھری کھری سناؤں، تھپڑ رسید کروں، گالیاں دوں، اپنی بھڑاں نکال دوں، گھروں والوں پر چیخ چیخ کر اپنی بڑائی جتاوں، غرض اپنے ہاتھ پر یا زبان کے استعمال سے اپنے کلیچ کو ٹھنڈک پہنچاؤں اور مجھے ظاہر کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں۔ ٹھیک ایسی حالت کے دوران اپنے آپ پر قابو کرنا اور نظر انداز اور درگزر سے کام لینا، یہ واقعی، بہت بڑے پہلوان سے بھی بڑھ کر طاقت ور بننے والی بات ہے۔

غضہ پر قابو پانے کا طریقہ

غضہ کے علاج کے طور پر کچھ طریقے ہیں جو مستقل علاج کی حیثیت رکھتے ہیں، جن میں حضرت تھانوی عزیز اللہ یہ ایک طریقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ: غصہ میں بتلا شخص اپنے عیوب پر ہر حال میں نظر رکھے، اپنے

اور نہ کہیں پانچ کا مگروہ (اللہ) ان میں چھٹا ہوتا ہے۔ (قرآن کریم)

عیوب پر نگاہ رکھنے والا شخص ہمیشہ عاجزی اور اپنی اصلاح کی فکر میں مگر رہے گا اور اسے یہ فکر کبھی بھی اپنے مخاطب پر چڑھائی کرنے سے روکتی رہے گی، ان شاء اللہ!!
مزید ایک تجربے کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ: ”غصہ قابو کرنا ہمیشہ مفید رہا ہے اور غصے کے تقاضے پر عمل کرنا ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔“

یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے غصہ نہ کر کے شرمندگی اٹھائی ہو؛ بلکہ ایسا شخص ہمیشہ اپنے اس فیصلے پر اطمینان کا اظہار کرے گا اور ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے غصہ کر کے افسوس اور شرمندگی نہ اٹھائی ہو، اس کا اندازہ معاشرے میں پھیلے بہت سے معاملات سے لگایا جاسکتا ہے، مثلاً: کاش! میں اس موقع پر اپنا ہاتھ روک لیتا، کاش! میری زبان گوگی ہو جاتی، میں اپنی زبان سے فلاں جملہ نہ کہتا، الغرض بہت سے تعلقات لین دین، رشتے، برادریاں، خاندان اس غصے کی عارضی کیفیت کی نذر ہو جاتے ہیں۔

طلاق کی شرح تیزی سے بڑھنے میں ”غصہ“ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تقریباً مرد حضرات غصے کی عین حالت میں معمولی ٹوٹوئیں میں کو طلاق کی نوبت تک پہنچا دیتے ہیں اور اکثریت بعد میں یہ کہتی پھرتی ہے کہ ہم نے غصے میں ایسا کیا ہے، اب ہم شرمند ہیں اور ہمیں کوئی طریقہ بتایا جائے؛ تاکہ ہم اپنی شریک حیات کو دوبارہ لاسکیں؛ لیکن:

اب پچھتا وے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت
غضہ کو قابو کرنے کا ایک مفید علاج یہ بھی ہے کہ غصے کے دوران عذابِ الہی اور اللہ کی قدرت کو ذہن میں دھرائے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ ایک بار حضرت صدیق اکبر رض اپنے ایک غلام کو ڈانت رہے تھے تو آپ نے صدیق اکبر رض سے کہا: ”لَهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ“، ترجمہ: ”اللہ تم پر اس سے زیادہ اختیار رکھتا ہے جتنا تم اپنے اس غلام پر رکھتے ہو۔“ یعنی ہم جس پر غصہ کر کے اپنی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں۔ وہ درحقیقت ہمارا اختیار ہوتا ہے، جسے ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اختیار رب کو اپنے اس بندے پر ہے؛ لہذا ہم اگر اللہ تعالیٰ سے معافی، درگزر، لحاظ، چھوٹ اور رعایت کو پسند رکھتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ بھی اپنے رویے میں اس چیز کو پسند رکھیں۔

ایک اہم علاج یہ ہے کہ غصہ جس جگہ آرہا ہے، وہاں سے فوری اتنا دور ہٹ جائیں کہ وہ شخص ہمیں نظر نہ آئے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ: غصے کا اصل سبب انسان کے جسم میں موجود حرارت کے مادے ہیں اور حرارت کا سبب حرکت ہے، جتنی حرکت ہوگی یعنی جتنا زیادہ بولے گا، جواب دے گا، جتنا ہاتھ اٹھائے گا، جتنا سوچے گا، انتقام کے جذبے کے سبب حرکت بڑھتی رہے گی اور جیسے ہی وہ اپنی جگہ بدل کر سکون میں آئے گا اور ایسی حرکات سے پر ہیز کرے گا تو حرارت کم ہوگی، جس کے نتیجے میں غصے کے جذبات بھی کم ہوں گے، جس کے

لیے علماء مختلف مختصر علاج تجویز کرتے ہیں، مثلاً تکرار سے بچنا، جواب الجواب سے پرہیز کرنا، اس موقع پر کمرہ، گھر، دفتر یا اس مخصوص جگہ سے اتنی دور جانا کہ وہ شخص نظر نہ آئے اور نہ گلوکا موضوع بدل جائے: وضو کر لینا، پانی پی لینا، تعوڑ پڑھ لینا، غیرہ۔ یہ سب تجویز جسم میں موجود اس حرارت کو مزید حرکت دینے سے روکنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ الغرض! غصہ آجائے تو اسے نظر انداز کرے اور اس موقع پر کوئی بھی چھوٹا بڑا فیصلہ کرنے سے گریز کرے اور غصے کو خود پر حاوی ہونے نہ دے، جس کی مثال ماہرین یوں بتاتے ہیں کہ جیسے خواب میں مجھے کوئی شخص گولی مار دے اور میں بے بس ہو کر تکلیف میں بنتا ہو جاؤں تو اس موقع پر اس تکلیف سے بچنے کا سبب آسان طریقہ یہی ہے کہ بیدار ہو جائے، جس کے بعد اس کی سب تکلیف ختم ہو جائیں گی۔

ایسے ہی غصہ ایک کیفیت ہے جس سے باہر نکل جانے کی صورت میں وہ کیفیت بکسر ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ غصہ کا دورانیہ ماہرین کے مطابق عموماً دس منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا؛ لہذا کسی بھی طرح ان دس منٹ کو بہلا پھسلا کر کسی غلط فیصلے سے بچا لے تو اگلے طویل دورانیہ تک اس کا فائدہ محسوس ہو گا۔

روزے کی حالت میں غصہ کے نقصانات

روزے کی حالت میں غصہ کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں، کیوں کہ پورا دن بھوک پیاس اور خواہشات سے دور رہتا ہے؛ اس لیے طبیعت میں ایک طرح کی تیزی کا آجانا لازمی ہے؛ اسی لیے رمضان کو صبر کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی دھیان رہے کہ ہم روزے میں جس صبر کی کیفیت سے دوچار ہیں، ہمارا ہر مسلمان مخاطب بھی روزے دار ہونے کی وجہ سے اس کیفیت میں ہوتا ہے۔ رمضان تو صبر، برداشت، غصے کو قابو کرنے اور اپنی تربیت کی مشق کا مہینہ ہے؛ اس لیے صوم کے لغوی معنی ہی احساس کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکنا۔ ایک روایت میں اس تربیتی طریقہ کار کو آپ نے رمضان کے پہلے خطبے میں ہی یوں بیان فرمایا:

”الصَّيَامُ جُنَاحٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثُ وَلَا يَصْخَبُ فَإِنْ سَابَهُ

أَحَدٌ أَوْ قَاتِلٌ فَلْيُقْلِنْ إِنِّي إِمْرَءٌ صَائِمٌ۔“

حدیث مبارک میں روزے کوڈھال سے تشبیہ دی گئی ہے، ڈھال ایک آله ہے جو جنگ میں حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے ہی روزہ بھی روزہ دار کی بد عملی، نافرمانی، گناہ اور عذاب کے کاموں سے حفاظت کرتا ہے۔ مزید تلقین کی کہ روزے کی حالت میں ہر طرح کی بے ہو دگی سے بچا جائے؛ لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود ٹھیک ہوتا ہے؛ لیکن واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو جنگ وجدال، گالم گلوچ پر اُتر آتے ہیں، فرمایا کہ: اگر کسی کا ایسے کسی شخص سے پالا پڑ جائے تو کہہ دو کہ: ”میں روزے سے ہوں“ میں معذرت چاہتا ہوں۔

